



سوال

(62) فجر کی جماعت کے دوران سنتیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعض لوگوں فجر کی جماعت کے دوران سنتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ منع کرنے پر کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں ہر صورت جماعت سے پہلے ادا کرنی چاہئیں۔ قرآن و سنت کی رو سے اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب جماعت کھڑی ہو جائے گی اس وقت سوائے فرض نما کے اور کوئی نماز نہیں ہوتی کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا:

((إذَا قِئْتُ الصَّلَاةَ فَلَا صَلَوةَ إِلَّا الْمَسْبُوءَةَ))

"جب جماعت کی نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت سوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں ہوتی"

اس حدیث کو مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی احمد بن حنبل اور ابن حبان نے بیان کیا ہے اور امام بخاری اسے ترجمہ باب میں لائے ہیں۔ امام ابن عدی سند حسن یہ روایت بھی لائے ہیں کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ فجر کی سنت بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت کہی جائے تو سنت فجر بھی نہ پڑھی جائے۔ عبداللہ بن سرجس سے صحیح مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ میں یوں مروی ہے کہ:

وَعَلَّ زَيْلَانَ النَّبِيَّ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي جَانِبِ النَّبِيِّ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا زَيْلَانُ يَا أَيُّهَا الصَّلَاتَيْنِ اغْتَرِذَتْ؛ أَيْضَلِكُمْ وَهَكَذَا، أَمْ بِصَلَاتِكُمْ مَنَعَتْ؟»

"عبداللہ بن سرجس نے کہا کہ ایک آدمی مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب رسول اللہ صبح کی نماز میں تھے۔ اس آدمی نے دو رکعت (سنت فجر) کی مسجد کے ایک کونے میں ادا کی پھر آپ کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا اے فلان ان دو نمازوں میں سے کونسی نماز کو تو نے فرض میں شمار کیا۔ جو نماز تو نے تنہا ادا کی یا ہمارے ساتھ والی۔"

اس حدیث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت فجر کی سنت پڑھنا مکروہ و ممنوع ہے اس پر رسول اللہ نے سرزنش فرمائی ہے۔ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی آدمی نے فجر کی سنتیں ابھی تک نہ پڑھی ہو تو جماعت سے فارغ ہونے کے بعد ادا کر لے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے: آپ نے صبح کی فرض نماز کے بعد ایک شخص کو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: (صلوة الصبح رکعتین رکعتین) صبح کی نماز (فرض) کی دو رکعت ہیں۔ دو رکعت ہیں تو اس نے جواب دیا "ان لم اکن

